

E-STATEMENT APPLICATION FORM

ای اسٹیٹمنٹ درخواست فارم

To, برائے،

The Manager, مینیجر،

Samba Bank Limited سامبا بینک لمیٹڈ

(DD) (MM) (YY)

(دن) (مہینہ) (سال)

Date [] [] [] - [] [] [] - [] [] []

تاریخ:

Branch: _____

برانچ:

Branch Code: _____

برانچ کوڈ:

Dear Sir,

محترم سر،

Sub: E-statement of Account Number(s)

(Subscription is entitled to the first/primary applicant of the account)

عنوان: اکاؤنٹ نمبر کی ای اسٹیٹمنٹ
(اکاؤنٹ کے پیل/اصل درخواست گزار کو منسلک پین دی جائے گی)

Please provide me/us electronically generated Statements of Account of my/our above mentioned account to the following:

میرے/ہمارے درج بالا اکاؤنٹ کے الیکٹرانک اسٹیٹمنٹس کو برائے مہربانی درج ذیل پر بھیجیں:

Email address: _____

ای میل ایڈریس:

I/We confirm that the electronic statements of account will be under my/our custody and agree to afford these statements in the same degree of security as given to Statements of Account, delivered by the courier/post. Furthermore, I/We understand that in case of any changes to my email address, I/We will inform the bank which will update the base level information for all accounts linked to my/our customer record(s).

میں/ہم اس بات کی تصدیق کرتا ہوں/کرتی ہوں کرتے ہیں کہ اکاؤنٹ کے الیکٹرانک اسٹیٹمنٹس میری/ہماری حفاظت میں ہیں اور میں/ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں/کرتی ہوں کہ یہ الیکٹرانک اسٹیٹمنٹس اتنے ہی محفوظ ہیں جتنے کوریئر/پوسٹ کے ذریعے بھیجے جانے والے اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں۔ مزید ہم یہ سمجھتے ہیں/سمجھتا ہوں/تسلی ہے کہ ای میل ایڈریس میں کسی بھی تبدیلی کے بارے میں/میں/ہم بینک کو مطلع کریں گے/کروں گی/کروں گے جس سے بینک میرے/ہمارے اکاؤنٹ سے متعلق تمام بنیادی معلومات کو میرے/ہمارے کسٹمرز ریکارڈ میں درج کر لے گا۔

I/We require that the Statements be sent to the above email address at the following frequency:

مجھے/ہمیں درج بالا ای میل ایڈریس پر اسٹیٹمنٹ درج ذیل عرصے میں بھیجا جائے:

Daily

روزانہ

Weekly

ہفتہ وار

Monthly

ماہانہ

Half-yearly

ششماہی

(Please tick one only)

(برائے مہربانی کسی ایک پر نشان لگائیں)

I/We hereby affirm and agree to abide by the following terms and conditions in respect of these services as amended from time to time.

میں/ہم اس سروسز سے متعلق شرائط و ضوابط میں وقتاً فوقتاً ہونے والی تبدیلیوں کی تائید کرتا ہوں/کرتی ہوں کرتے ہیں اور ان سے متفق ہوں/ہیں۔

Yours sincerely,

آپ کا مخلص،

Signature

دستخط

Signature

دستخط

(In case of jointly operated account)

(مشترکہ اکاؤنٹ ہونے کی صورت میں)

I/We also wish that the present method of sending statements of account by courier/mail be discontinued.

میں/ہم یہ چاہتا ہوں/چاہتی ہوں/چاہتے ہیں کہ کوریئر/ڈاک کے ذریعے اسٹیٹمنٹ بھیجنے کے موجودہ طریقے کو ختم کر دیا جائے۔

Signature

دستخط

(Please sign if you do not wish that hard copy is mailed)

(اگر آپ ڈاک کے ذریعے کاپی وصول کرنا نہ چاہتے ہوں تو برائے مہربانی دستخط کریں)

Signature

دستخط

(In case of jointly operated account)

(مشترکہ اکاؤنٹ ہونے کی صورت میں)

برائے مہربانی ان شرائط و ضوابط کو بغور پڑھ لیں PLEASE READ THESE TERMS AND CONDITIONS CAREFULLY

I hereby instruct and authorize the Bank to send my E-statement by email.

میں بینک کو تاکید کرتا ہوں/کرتی ہوں اور اختیار دیتا ہوں/دیتی ہوں کہ میری ای-ایسٹیمینٹ بذریعہ ای میل بھیجی جائے۔

Information relating to my access to the "E-statement Services" will be sent to my email address. I agree that the risk of non-receipt and disclosure of the Security Codes/Passwords and any other account information to third parties shall be borne by me.

میری "ای-ایسٹیمینٹ سروسز" تک رسائی کے بارے میں معلومات میرے ای میل ایڈریس پر بھیجی جائیں۔ میں اتفاق کرتا ہوں/کرتی ہوں کہ عدم وصولی اور سیکورٹی کوڈز/پاس ورڈز یا اکاؤنٹ سے متعلق دیگر معلومات کسی تیسری پارٹی کو پتہ چل جانے کی صورت میں درپیش خطرے کا ذمہ دار میں خود ہوں گا/ہوں گی۔

In consideration of my instruction for account statement(s) and advice(s) to be sent to the e-mail address specified at the requested frequency, any existing instructions to hold mail or to send all statements and advice by post or courier services are cancelled. I agree that all statements or advices sent (by the Bank) shall be deemed to be accurate and correct unless I give written notice to the Bank of any inaccuracies or errors, so reflected on the statement or advice within forty five (45) days of the date of the statement or advice. I hereby expressly waive any legal rights, past or future, that I may have against the Bank for providing "E-statement Services" and fully accept the risks and responsibilities associated with the statements and advices being transmitted electronically. I acknowledge that the Bank would not be held liable against any external factors affecting the privacy and/or security of e-mails during Internet transmission. The Bank shall also not be liable or responsible for data corruption, delay, interception and unauthorized amendment of information transmitted electronically from time to time and at any time.

اکاؤنٹ ایسٹیمینٹس اور تجاویز سے متعلق میری ہدایات کو مدنظر رکھتے ہوئے درخواست کیے گئے دورانیے میں دیے گئے / مخصوص ای میل ایڈریس پر انہیں بھیجا جائے، اور ہولڈ میل یا پوسٹ یا کوریئر سروسز کے ذریعے تمام ایسٹیمینٹس اور تجاویز بھیجنے کی کسی بھی موجودہ ہدایت کو منسوخ کر دیا جائے۔ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں/کرتی ہوں کہ (بینک کی جانب سے) بھیجی گئیں تمام ایسٹیمینٹس اور ہدایات کو اس وقت تک درست اور صحیح سمجھا جائے جب تک میں ایسٹیمینٹ یا تجویز کے اجراء کے پینتالیس (45) دن کے اندر بینک کو ایسٹیمینٹ میں کسی بھی کوتاہی یا غلطی کے متعلق تحریری طور پر مطلع نہ کر دوں۔

میں یہاں "ای-ایسٹیمینٹ سروسز" کی فراہمی سے متعلق گزشتہ یا متوقع کسی بھی قانونی چارہ جوئی سے بینک کو دستبردار کرتا ہوں/کرتی ہوں اور الیکٹرانک طریقے سے موصول ہونے والی ایسٹیمینٹس اور تجاویز سے متعلق درپیش تمام خطرات اور ذمہ داریوں کو مکمل طور پر تسلیم کرتا ہوں/کرتی ہوں۔ میں یہ واضح کرتا ہوں/کرتی ہوں کہ انٹرنیٹ کے ذریعے بھیجے جانے کے دوران ای میل کی پرائیویسی اور/یا سیکورٹی کو متاثر کرنے والے کسی بھی بیرونی عوامل کا بینک ذمہ دار نہ ہوگا۔ بینک وقتاً فوقتاً اور کسی بھی وقت الیکٹرانک طریقے سے بھیجے جانے پر ڈیٹا کرپشن، تاخیر، رکاوٹ اور معلومات میں غیر مجاز ترمیم کا جواب دہ یا ذمہ دار نہ ہوگا۔

I further agree to keep the Bank indemnified against all actions, proceedings, liabilities and claims, cases, damages, costs and expenses in relation to or arising out of the Bank accepting my request and transmitting statements and information through electronic means. I agree to pay all fees and charges which the Bank may impose from time to time pertaining to "E-statement Services". I warrant that all the information provided by me, at the time of applying for the service is correct, accurate and absolute in all aspects.

میں مزید اتفاق کرتا ہوں/کرتی ہوں کہ میری درخواست قبول کرنے اور الیکٹرانک طریقے سے ایسٹیمینٹس اور معلومات کو منتقل کرنے کے نتیجے میں درپیش تمام عوامل، کارروائیوں، مواخذوں، مطالبوں، نقصان، لاگت اور اخراجات کا ذمہ دار بینک نہ ہوگا۔ میں اقرار کرتا ہوں/کرتی ہوں کہ بینک کی جانب سے "ای-ایسٹیمینٹ سروسز" کے حوالے سے وقتاً فوقتاً عائد کی جانے والی فیس اور چارجز کو ادا کرونگا/کرونگی۔ میں اس بات کی یقین دہانی کروا رہا ہوں/کروا رہی ہوں کہ سروس کے حصول کی درخواست کے وقت میری جانب سے فراہم کی گئی تمام معلومات صحیح، درست اور ہر لحاظ سے مکمل ہے۔

I hereby confirm that any change in my email address or any request for discontinuation of this facility will be immediately informed by me to the Bank's Customer Service through phone banking. I shall also inform the Bank in writing, in case of change in the email address or if I do not want the statement of account to be sent by email. Failure to receive any Service(s) due to change of email address not being communicated to the Bank will not excuse me from claiming non-receipt of the Statements. The Bank shall not be liable or responsible for data corruption, delay, interception and unauthorized amendment of the information so given and the Bank also reserves its rights to update and vary such information from time to time and at any time.

میں یہاں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں/کرتی ہوں کہ اس ای میل ایڈریس میں کسی بھی تبدیلی کے بارے میں یا اس سہولت کو معطل کرنے کے حوالے سے میں بینک کے کسٹمر سروس بینکنگ کے ذریعے مطلع کرونگا/کرونگی۔ میں ای میل ایڈریس کی تبدیلی کے بارے میں یا ای میل پر اکاؤنٹ ایسٹیمینٹ وصول نہ کرنے کے حوالے سے بھی بینک کو تحریری طور پر مطلع کرونگا/کرونگی۔ میرے ای میل ایڈریس میں ایسی کوئی بھی تبدیلی جس کے بارے میں، میں نے بینک کو مطلع نہ کیا ہو، اس کے نتیجے میں موصول نہ ہونے والی ایسٹیمینٹس کیلئے میں مطالبہ نہیں کر سکتا/کر سکتی۔ بینک ڈیٹا کرپشن، تاخیر، مداخلت اور فراہم کی گئی معلومات میں غیر مجاز ترمیم کا جواب دہ یا ذمہ دار نہ ہوگا اور بینک کو یہ حق بھی حاصل ہوگا کہ ایسی تمام مختلف معلومات کو وقتاً فوقتاً اور کسی بھی وقت اپ ڈیٹ کر دے۔

In case of corporate account holders, it shall be the responsibility of the account holder to ensure that the E-statement shall be under the custody of authorized/designated employee(s)/director/partners of the company/firm. The Bank shall not be responsible or liable for any unauthorised or misuse of the E-statement or any alteration/manipulation therein.

کارپوریٹ اکاؤنٹ ہولڈر ہونے کی صورت میں، یہ اکاؤنٹ ہولڈر کی ذمہ داری ہے کہ ایسٹیمینٹ کمپنی/فیرم کے مجاز/ناظر ملازمین/ڈائریکٹر/پارٹنرز کی زیر نگرانی ہونے کی یقین دہانی کروائے۔ بینک ایسٹیمینٹ کے کسی بھی غیر مجاز یا غلط استعمال یا کسی بھی تبدیلی/ہیر پھیر کا ذمہ دار یا جوابدہ نہ ہوگا۔

This agreement is in addition to and not in substitution for any other agreements, mandates, terms and conditions relating to the customer's account(s) with the Bank.

بینک میں کسٹمر کے اکاؤنٹ سے متعلق یہ معاہدہ کسی بھی دوسرے معاہدوں، منشور، شرائط و ضوابط میں تبدیلی نہیں بلکہ ان میں اضافہ ہے۔

I do hereby confirm having read the above Terms & Conditions and be bound by them.

میں درج بالتمام شرائط و ضوابط کی تصدیق کرتا ہوں/کرتی ہوں اور ان کا/کی پابند ہوں۔

Name/Title of Account: _____

نام/اکاؤنٹ ٹائٹل

Signature of Authorized Signatory(ies): _____

مجاز دستخط کنندگان کے دستخط

Name of Authorized Signatory(ies): _____

مجاز دستخط کنندگان کے نام